

فتر برائے تعلقات عامہ و میڈیا کو آرڈی نیشن

جامعہ ملیہ اسلامیہ

24 اکتوبر 2020

پریس ریلیز

جامعہ ملیہ اسلامیہ نے جدید زبان میں دو ہفتوں کا آن لائن ریفریشر کورس شروع کیا

یونیورسٹی کے مختلف شعبوں جیسے عربی ، انگریزی ، ہندی ، سنسکرت ، فارسی اور اردو کے اشتراک یو جی سی۔ بیومن ریسورس ڈویلپمنٹ سینٹر (یو جی سی۔ ایچ آر ڈی سی) ، جامعہ ملیہ اسلامیہ (جے ایم ائی) نے اپنے دو ہفتوں کے آن لائن ریفریشر کورس کا آغاز کیا 23 اکتوبر 2020 سے جدید زبان میں۔ ملک کے مختلف جگہوں سے اس ورک شاپ میں عربی ، انگریزی ، ہندی ، اردو ، فارسی ، سنسکرت ، بوڈو ، آسامی ، تمل ، ملیالم وغیرہ جیسی زبانوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 100 مندوبین شریک ہوئے۔

اس میں پروفیسر انیس الرحمن ڈائریکٹر ، یو جی سی۔ ایچ آر ڈی سی ، افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی ، پروفیسر نجمہ اختر ، وائس چانسلر ، جامرہ ملیہ اسلامیہ، پدم شری شمس الرحمن فرقی ، پروفیسر اسد الدین، پروفیسر انیس الرحمن وغیرہ نے شرکت کی۔

اپنے افتتاحی خطاب کے دوران پروفیسر نجمہ اختر نے شرکاء کے لئے لینگویج ریفریشر کورس کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے طلباء کے کیریئر کی تشکیل اور ملک کے تعلیمی اداروں کو نئی بلندیوں پر لانے میں اساتذہ کے اہم کردار پر گفتگو کی۔

شمس الرحمن فاروقی ، مشہور شاعر اور نقاد نے جامعہ کی ترقی میں وائس چانسلر پروفیسر نجمہ اختر کے متحرک کردار کو سراہا۔ اپنے خطاب میں ، انہوں نے زبانوں کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں بات کی۔

پروگرام کے کوآرڈینیٹرز ڈاکٹر فوزان احمد ، ایسوسی ایٹ پروفیسر ، شعبہ عربی اور ڈاکٹر ابھے کمار شینڈیلیہ ، اسسٹنٹ پروفیسر ، شعبہ سنسکرت نے کورس کا خاکہ پیش کیا اور شرکا کو پروگرام کی تفصیلات بتائیں۔

پروفیسر محمد اسد الدین ، ڈین ، فیکلٹی آف ہیومنٹی اینڈ لینگویجس نے صدارت کے فرائض انجام دیئے جس میں انہوں نے شمس الرحمن فاروقی کی فصاحت آمیز گفتگو کو سراہا اور زبانوں کی باہمی تال میل کی ضرورت اور مطابقت پر بھی روشنی ڈالی۔

افتتاحی تقریب ڈاکٹر ایس عذرا خورشید کے کلمات تشکر کے ساتھ اختتام پزیر ہوا۔

احمد عظیم

پی آر او میڈیا کوآرڈینیٹر